جدید آمد نامہ

# تسہیل المصادر




مکتبہ نعیمیہ

صدر بازار مئوناتھ بھنجن ۲۷۵۱۰۱

BVP-988-14/12/16
(4) 908. 3/15

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

بفضل اللہ القادر وبرحمتہ حبیبہ الطاہر

رسالۂ نافعہ

# تسہیل المصادر

المعروف بہ

## جدید آمدنامہ


مصنفہ

حضرت مولانا الحاج المفتی الشاہ محمد عبد الرشید خاں صاحب فتحپوری مدظلہ العالی



ملنے کا پتہ

مکتبہ نعیمیہ صدر بازار مئو ناتھ بھنجن یو۔پی

افضل نعیمی پریس مئو

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم نحمدہٗ و نصلی علیٰ رسولہ الکریم

# اصطلاحاتٌ

صیغہ:۔ لفظ کو کہتے ہیں

واحد:۔ ایک کو کہتے ہیں

جمع:۔ ایک سے زیادہ کو کہتے ہیں

غائب:۔ جو سامنے موجود نہ ہو

حاضر:۔ جو سامنے موجود ہو

متکلم:۔ بات کرنے والا

زمانہ:۔ وقت کو کہتے ہیں۔ زمانہ کی تین قسمیں ہیں۔ ماضی، حال، مستقبل

ماضی:۔ گزرا ہوا زمانہ

حال:۔ موجودہ زمانہ

مستقبل آنے والا زمانہ

فعل:۔ کام کو کہتے ہیں (جس سے زمانہ ظاہر ہو)

فاعل:۔ کام کرنے والے کو

مفعول:۔ جس پر فعل واقع ہو

لازم:۔ وہ ہے جو فاعل پر پورا ہو جائے جیسے زید گیا

متعدی:۔ وہ ہے جو فاعل اور مفعول دونوں سے ملکر پورا ہو جیسے زید نے بکر کو دیا۔

معروف:۔ وہ ہے جس کا کرنیوالا معلوم ہو جیسے زید نے پالا

مجہول:۔ وہ ہے جسکا کرنیوالا معلوم نہ ہو جیسے زید پالا گیا۔

مثبت:۔ وہ ہے جس سے ہونا یا کرنا سمجھا جائے جیسے کھایا

منفی:۔ وہ ہے جس سے نہ ہونا یا کرنا سمجھا جائے جیسے نہیں کھایا۔

مصدر کا بیان

سبق (۱) مصدر وہ ہے جس سے دوسرے لفظ بنیں، فارسی میں مصدر کے آگے دَن یا تَن ہوتا ہے جیسے پروردن (پالنا) گفتن (کہنا) ؎۱

؎۱ اردو میں مصدر کے آخر نا ہوتا ہے جیسے لکھنا پڑھنا وغیرہ۔

مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں ان کی چھ قسمیں ہیں۔ ماضی[1]، مضارع[2]، حال[3]، مستقبل[4]، امر[5]، نہی[6]۔ پھر ان میں سے ہر ایک کے چھ صیغے ہیں۔ واحد غائب[1]، جمع غائب[2]، واحد حاضر[3]، جمع حاضر[4]، واحد متکلم[5]، جمع متکلم[6]، ہر صیغے کی علامت نیچے کے نقشے سے معلوم کریں۔ تنبیہ علامت کے تمام حروف ساکن ہوتے ہیں۔ دو ہوں خواہ ایک۔

## صیغوں کی علامت کا نقشہ

| صیغہ | واحد غائب | جمع غائب | واحد حاضر | جمع حاضر | واحد متکلم | جمع متکلم |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| علامت | تْ ۔ دْ | نْدْ | یْ | یْدْ | مْ | یْمْ |
| مثال | پرورد | پروردند | پروردی | پروردید | پروردم | پروردیم |

## سوالات

۱۔ گردن مصدر ہے یا نہیں اگر نہیں تو کیوں حالانکہ آخر میں مصدر کی علامت دن موجود ہے۔

۲:۔ گفت میں تمام صیغوں کی علامتیں بتلاؤ۔

۳:۔ خوردم کیا صیغہ ہے۔

۴:۔ جمع حاضر کی علامت بتلاؤ۔

۵:۔ گفت سے جمع متکلم کا صیغہ بناؤ۔

۶:۔ خوردند کیا صیغہ ہے۔

۷:۔ گوید میں کونسی علامت ہے۔

## سبق (۲) فعل ماضی کا بیان

فعل ماضی کی چھ قسمیں ہیں، ماضی مطلق[1]، ماضی قریب[2]، ماضی بعید[3]، ماضی استمراری[4]، ماضی احتمالی[5]، ماضی تمنائی[6]۔

**ماضی مطلق:۔** وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کیا ہوا کام سمجھا جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ۔

مصدر کے آخر سے "ن" اور اس سے پہلے زبر کو گرا کر ماضی مطلق بناتے ہیں

جیسے پروردن سے پَرْوَرْد۔

## گردان ماضی مطلق معروف

| صیغہ | واحد غائب | جمع غائب | واحد حاضر | جمع حاضر | واحد متکلم | جمع متکلم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فارسی | پرورد۔ | پروردند | پروردی | پروردید | پروردم | پروردیم |
| اردو | اس نے پالا | انھوں نے پالا | تو نے پالا | تم نے پالا | میں نے پالا | ہم نے پالا |

## سوالات

۱:۔ ماضی مطلق کی تعریف کرو۔

۲:۔ ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ بتاؤ۔

۳:۔ پروردید کا ترجمہ کرو۔

۴:۔ گفت سے جمع متکلم کا صیغہ بناؤ۔

۵:۔ خوردی کیا صیغہ ہے۔

۶:۔ جمع غائب کی علامت بیان کرو۔

۷:۔ پرورد سے واحد متکلم کا صیغہ کیا ہوگا۔

۸:۔ جمع حاضر کی کیا پہچان ہے۔

| گفتن | شنیدن | نوشتن | خواندن | خوردن | نوشیدن |
|---|---|---|---|---|---|
| کہنا | سننا | لکھنا | پڑھنا | کھانا | پینا |

## اردو میں ترجمہ کرو

گفتم، شنیدی، خوردند، نوشیدند، نوشت، خواندیم، خوردی، نوشیدم

گفتند، شنیدی، نوشتیم، خواند۔

فارسی بناؤ:۔ اس نے لکھا، میں نے پڑھا، اس نے پیا، تو نے کھایا، ہم نے سنا،

تو نے پالا، انھوں نے کہا میں نے لکھا، تم نے پڑھا، اس نے پیا، تو نے کھایا، ہم نے کہا

---

ﻟﮧ اردو میں ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مصدر کے آخر سے نا گرا کر دیکھیں اگر آخر میں الفاظ یا واؤ رہے تو لفظ یا لگا دیں جیسے کھانا سے کھایا، دھونا سے دھویا اور اگر ان کے علاوہ ہوں تو الف لگا دیں جیسے کہنا سے کہا سننا سے سنا

## سبق (۴) ماضی مجہول کا بیان

ماضی مجہول:۔ وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے لیکن کرنے والا (فاعل) معلوم نہ ہو۔

ماضی معروف کے آخر میں "شد" بڑھا کر ماضی مجہول بناتے ہیں جیسے پرورد سے پرورده شد[ل]۔ تنبیہ:۔ مجہول ہمیشہ فعل متعدی سے آتا ہے۔

## گردان ماضی مطلق مجہول

| صیغہ | واحد غائب | جمع غائب | واحد حاضر | جمع حاضر | واحد متکلم | جمع متکلم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فارسی | پرورده شد | پرورده شدند | پرورده شدی | پرورده شدید | پرورده شدم | پرورده شدیم |
| اردو | وہ پالا گیا | وہ پالے گئے | تو پالا گیا | تم پالے گئے | میں پالا گیا | ہم پلے گئے |

## سوالات

۱:۔ ماضی معروف اور مجہول میں کیا فرق ہے۔

۲:۔ ماضی مجہول بنانے کا کیا قاعدہ ہے۔

۳:۔ گفت سے ماضی مجہول کی گردان کرو۔

۴:۔ نوشتہ شدید کیا صیغہ ہے۔

۵:۔ ہم پالے گئے اس کی فارسی بناؤ۔

۶:۔ گفتہ شدید کا ترجمہ کرو۔

۷:۔ میں نے لکھا اس کی فارسی بناؤ۔

۸:۔ خورده شد کیا صیغہ ہے مع معنی بتاؤ۔

| آراستن | بخشیدن | پسندیدن | نواختن | دادن | ستودن |
|---|---|---|---|---|---|
| سنوارنا | بخشنا | پسند کرنا | نوازنا | دینا | تعریف کرنا |

## اردو میں ترجمہ کرو

آراستہ شدی، بخشنده شدم، پسندیده شدید، نواختہ شدند، ستوده شد، داده شدیم،

---

[ل] اردو میں ماضی معروف کے آخر میں گیا زیادہ کرکے ماضی مجہول بناتے ہیں۔ جیسے پالا سے پالا گیا

پسندیدم، دادہ شدی، نواختند، آراستہ شدیم، ستودہ شد، بخشیدید۔

## فارسی بناؤ

میں نے دیا، وہ پسند کیا گیا، تم نے تعریف کی، ہم بخشے گئے، تو نے سنوارا، وہ نوازے گئے، وہ تعریف کئے گئے، ہم نے کہا، تو بخشا گیا، اس نے پسند کیا، میں دیا گیا۔

## سبق (۴) ماضی منفی کا بیان

قاعدہ[1]: مثبت کو اگر منفی بنانا ہو تو شروع میں "ن" بڑھا دیا جائے جیسے پرورد سے نپرورد

### گردان ماضی منفی معروف

| صیغہ | واحد غائب | جمع غائب | واحد حاضر | جمع حاضر | واحد متکلم | جمع متکلم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فارسی | نپرورد | نپروردند | نپروردی | نپروردید | نپروردم | نپروردیم |
| اردو | اس نے نہیں پالا | انہوں نے نہیں پالا | تو نے نہیں پالا | تم نے نہیں پالا | میں نے نہیں پالا | ہم نے نہیں پالا |

### گردان ماضی منفی مجہول

| صیغہ | واحد غائب | جمع غائب | واحد حاضر | جمع حاضر | واحد متکلم | جمع متکلم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فارسی | نپروردہ شد | نپروردہ شدند | نپروردہ شدی | نپروردہ شدید | نپروردہ شدم | نپروردہ شدیم |
| اردو | وہ نہیں پالا گیا | وہ نہیں پالے گئے | تو نہیں پالا گیا | تم نہیں پالے گئے | میں نہیں پالا گیا | ہم نہیں پالے گئے |

## سوالات

۱: منفی کی تعریف کرو۔

۲: منفی بنانے کا قاعدہ بیان کرو۔

۳: نداده شدم کیا صیغہ ہے مع معنی بتاؤ۔

۴: تم پسند نہیں کئے گئے اس کی فارسی بناؤ۔

---

[1] اردو میں مثبت سے پہلے لفظ نہیں یا نہ لگا کر منفی بناتے ہیں جیسے پالا سے نہیں پالا یا نہ پالا۔

۵:۔ نہ شنیدم کیا صیغہ ہے۔ ۷:۔ پسندیدے سے ماضی منفی مجہول کی گردان کرو۔

۶:۔ مثبت اور منفی میں کیا فرق ہے۔ ۸:۔ گفت سے ماضی منفی معروف کی گردان سناؤ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| آوردن | آمرزیدن | برداشتن | باریدن | پاشیدن | پیوستن |
| لانا | بخشنا | اٹھانا | برسنا | چھڑکنا | ملانا |

## اردو میں ترجمہ کرو

آوردہ شدند، آمرزیدہ شدید۔ پاشیدہ شد، پیوستیم، نباریدید، برداشتہ شدی

نشنیدیم، آوردہ شد، ستودہ شدم، برداشتند، نگفتی، دادہ شدید۔

**فارسی بناؤ:۔** میں نے نہیں چھڑکا، انھوں نے ملایا، تم اٹھائے گئے، وہ نہیں دیا گیا

ہم لائے، انھوں نے نہیں پیا، تو نے بخشا، ہم نے کہا، اس نے سُنا، تم نے نہیں کھایا

میں نے تعریف کی، وہ نہیں پسند کئے گئے۔

## سبق (۵) ماضی قریب کا بیان

ماضی قریب وہ ہے جس سے قریب کے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے ماضی مطلق کے آخر میں "است" زیادہ کرکے ماضی قریب بناتے ہیں۔ جیسے پرورد سے پروردہ است۔

## گردان ماضی قریب معروف

| صیغہ | واحد غائب | جمع غائب | واحد حاضر | جمع حاضر | واحد متکلم | جمع متکلم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فارسی | پروردہ است | پروردہ اند | پروردۂ | پروردہ اید | پروردہ ام | پروردہ ایم |
| اردو | اس نے پالا ہے | انہوں نے پالا ہے | تو نے پالا ہے | تم نے پالا ہے | میں نے پالا ہے | ہم نے پالا ہے |

---

ل؎ اردو میں ماضی مطلق کے آخر میں "ہے" زیادہ کرکے ماضی قریب بناتے ہیں جیسے پالا سے پالا ہے ٹ؎ "ہ" پر ء لکھ کر ای پڑھتے ہیں۔

# گردان ماضی قریب مجہول

| صیغہ | واحد غائب | جمع غائب | واحد حاضر | جمع حاضر | واحد متکلم | جمع متکلم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فارسی | پرورده شده است | پرورده شده اند | پرورده شدهٔ | پرورده شده اید | پرورده شده ام | پرورده شده ایم |
| اردو | وہ پالا گیا ہے | وہ پالے گئے ہیں | تو پالا گیا ہے | تم پالے گئے ہو | میں پالا گیا ہوں | ہم پالے گئے ہیں |

# سوالات

۱۔ ماضی مطلق اور ماضی قریب میں کیا فرق ہے

۲۔ ماضی قریب بنانے کا کیا قاعدہ ہے۔

۳۔ آورده شدهٔ کیا صیغہ ہے۔

۴۔ میں نے کہا ہے اسکی فارسی بناؤ۔

۵۔ آمرزیده شده اند کا ترجمہ کرو۔

۶۔ وہ نوازے گئے ہیں اسکی فارسی بناؤ۔

۷۔ خوانده اید کیا صیغہ ہے مع معنی بتاؤ۔

۸۔ ہم نے نہیں سنا ہے اسکی فارسی بناؤ۔

| چشیدن | خفتن | رسیدن | شناختن | فرستادن | گریختن |
|---|---|---|---|---|---|
| چکھنا | سونا | پہونچنا | پہچاننا | بھیجنا | بھاگنا |

# اردو میں ترجمہ کرو

گریختہ اند، فرستاده شده اید، نخفتہ ام، چشیده ایم، نرسیدهٔ، نشناختہ، آراستہ ام

نہ پسندیدهٔ، بخشیده شده اند، نداده ایم، گفتہ اید، نشنیده است

فارسی بناؤ:۔ تم نے پہچانا ہے، میں نے نہیں بھیجا، اس نے چکھا ہے، تو نہیں نوازا گیا، ہم نے تعریف کی ہے، انہوں نے سنا، تو نے نہیں دیا، وہ پہچانے گئے ہیں، میں سویا ہوں تم دیئے گئے ہو، وہ پہونچا ہے، ہم نہیں بھیجے گئے۔

## سبق (۶) ماضی بعید کا بیان

ماضی بعید وہ ہے جس سے دور کے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔

ماضی مطلق کے آخر میں "بود" بڑھا کر ماضی بعید بناتے ہیں جیسے پرورد سے پرورده بود[1]

## گردان ماضی بعید معروف

| صیغہ | واحد غائب | جمع غائب | واحد حاضر | جمع حاضر | واحد متکلم | جمع متکلم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فارسی | پرورده بود | پرورده بودند | پرورده بودی | پرورده بودید | پرورده بودم | پرورده بودیم |
| اردو | وہ پالا تھا | وہ پالے تھے | تو پالا تھا | تم پالے تھے | میں پالا تھا | ہم پالے تھے |

## گردان ماضی بعید مجہول

| صیغہ | واحد غائب | جمع غائب | واحد حاضر | جمع حاضر | واحد متکلم | جمع متکلم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فارسی | پرورده شده بود | پرورده شده بودند | پرورده شده بودی | پرورده شده بودید | پرورده شده بودم | پرورده شده بودیم |
| اردو | وہ پالا گیا تھا | وہ پالے گئے تھے | تو پالا گیا تھا | تم پالے گئے تھے | میں پالا گیا تھا | ہم پالے گئے تھے |

## سوالات

۱:۔ ماضی بعید کی تعریف کرو۔

۲:۔ ماضی بعید کیسے بنائی جاتی ہے۔

۳:۔ گفتہ بودم کیا صیغہ ہے۔

۴:۔ میں نوازا گیا تھا اسکی فارسی بناؤ

۵:۔ ستوده شده بودید کیا صیغہ ہے۔

۶:۔ ترسیده بودی کا ترجمہ کرو۔

۷:۔ تم نہیں بھاگے تھے اسکی فارسی بناؤ۔

۸:۔ آورده شده بودند کیا صیغہ ہے معنی بتاؤ۔

| اندوختن | پرسیدن | خندیدن | درخشیدن | سپردن | فہمیدن |
|---|---|---|---|---|---|
| جمع کرنا | پوچھنا | ہنسنا | چمکنا | سونپنا | سمجھنا |

**اردو میں ترجمہ کرو:۔** خندیده بودی، سپرده شده بودیم، فہمیده اند، پرسیده شده بود، درخشید اندوختہ بودم، فہمیده شد، سپرده شده بودید، درخشیده اند، نخندیده بودم، اندوختہ بود

**فارسی بناؤ:۔** میں نے سیکھا تھا، وہ نہیں سمجھتے تھے، ہم نے نہیں بھیجا تھا۔

---

[1] اردو میں ماضی مطلق کے آخر میں (تھا) زیادہ کر کے ماضی بعید بناتے ہیں جیسے پالا سے پالا تھا۔

تم نے جمع کیا ہے ، وہ چمکا ، تو نہیں بھاگا ، تم نے سونپا تھا ، انہوں نے تعریف کی تھی۔
میں نے نہیں پسند کیا ، تو نے نوازا ہے ، ہم نے لکھا تھا وہ نہیں دیا گیا۔

## سبق (۷) ماضی استمراری کا بیان

ماضی استمراری وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کا پورا ہونا سمجھا جائے اس لئے اس کو ماضی ناتمام بھی کہتے ہیں۔
ماضی مطلق کے پہلے می یا ہمی زیادہ کر کے ماضی استمراری بناتے ہیں جیسے پرورد سے می پرورد[۱]

## گردان ماضی استمراری معروف

| صیغہ | واحد غائب | جمع غائب | واحد حاضر | جمع حاضر | واحد متکلم | جمع متکلم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فارسی | می پرورد | ہمی پروردند | ہمی پروردی | می پروردید | می پروردم | می پروردیم |
| اردو | وہ پالتا تھا | وہ پالتے تھے | تو پالتا تھا | تم پالتے تھے | میں پالتا تھا | ہم پالتے تھے |

## گردان ماضی استمراری مجہول

| صیغہ | واحد غائب | جمع غائب | واحد حاضر | جمع حاضر | واحد متکلم | جمع متکلم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فارسی | پرورده می شد | پرورده می شدند | پرورده می شدی | پرورده می شدید | پرورده می شدم | پرورده می شدیم |
| اردو | وہ پالا جاتا تھا | وہ پالے جاتے تھے | تو پالا جاتا تھا | تم پالے جاتے تھے | میں پالا جاتا تھا | ہم پالے جاتے تھے |

سوالات :- ۱۔ ماضی استمراری مجہول میں لفظ می کہاں داخل کرتے ہیں۔

---

[۱] اردو میں مصدر کے آخر سے نا دور کر کے تا تھا لگا کر ماضی استمراری بناتے ہیں جیسے پالنا سے پالتا تھا۔

۲:۔ ماضی استمراری مجہول کی گردان بغیر معنی سناؤ۔
۳:۔ ماضی استمراری اور ماضی بعید میں کیا فرق ہے۔
۴:۔ ماضی استمراری بنانے کا قاعدہ بتاؤ۔
۵:۔ می خفتی کیا صیغہ ہے بتاؤ۔
۶:۔ ہم پہچانتے تھے اس کی فارسی بناؤ۔
۷:۔ شناخت سے ماضی استمراری معروف کی گردان کرو۔
۸:۔ آمرزیدہ می شدید کا ترجمہ کرو۔

| استادن | نشستن | آمدن | رفتن | پوئیدن | جستن |
|---|---|---|---|---|---|
| کھڑا ہونا | بیٹھنا | آنا | جانا | دوڑنا | کودنا |

## اردو میں ترجمہ کرو

می جستی۔ پوئیدہ بودند۔ می رفتم، نمی آمدید، می نشست، استادہ بودیم، پرسیدہ می شدید، آوردہ نمی شدند، آمرزیدہ شدۂ، نمی خندیدم، می پاشید، شناختہ نمی شدم،

فارسی بناؤ:۔ ہم آئے تھے، وہ بیٹھے تھے، تم دوڑتے تھے، وہ نہیں کودتا تھا، تو نہیں پہچانا جاتا تھا۔ میں پہونچا تھا، اس نے چھڑکا ہے، تم نے اٹھایا ہے، میں ملاتا تھا، تو نہیں پہچانا جاتا تھا، ہم پڑھتے تھے، وہ نہیں لکھتے تھے۔

## سبق (۸) ماضی احتمالی کا بیان

ماضی احتمالی وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کئے ہوئے کام کے اندر شک سمجھا جائے اسی لئے اسکو ماضی شکی بھی کہتے ہیں۔

ماضی مطلق کے آگے "ہ" باشد بڑھاکر ماضی احتمالی بناتے ہیں جیسے پرورد سے پرودہ باشد [1]

---

[1] اردو میں ماضی مطلق کے آخر میں ہوگا زیادہ کر کے ماضی احتمالی بناتے ہیں جیسے پالا سے پالا ہوگا۔

# گردان ماضی احتمالی معروف

| صیغہ | واحد غائب | جمع غائب | واحد حاضر | جمع حاضر | واحد متکلم | جمع متکلم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فارسی | پرورده باشد | پرورده باشند | پرورده باشی | پرورده باشید | پرورده باشم | پرورده باشیم |
| اردو | اس نے پالا ہوگا | انہوں نے پالا ہوگا | تو نے پالا ہوگا | تم نے پالا ہوگا | میں نے پالا ہوگا | ہم نے پالا ہوگا |

# گردان ماضی احتمالی مجہول

| صیغہ | واحد غائب | جمع غائب | واحد حاضر | جمع حاضر | واحد متکلم | جمع متکلم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فارسی | پرورده شده باشد | پرورده شده باشند | پرورده شده باشی | پرورده شده باشید | پرورده شده باشم | پرورده شده باشیم |
| اردو | وہ پالا گیا ہوگا | وہ پالے گئے ہونگے | تو پالا گیا ہوگا | تم پالے گئے ہوگے | میں پالا گیا ہونگا | ہم پالے گئے ہونگے |

## سوالات

۱۔ ماضی احتمالی کی تعریف کرو۔

۲۔ نشست سے ماضی احتمالی مجہول کی گردان کرو۔

۳۔ استاده باشد کیا صیغہ ہے مع معنی بتاؤ۔

۴۔ تم دیئے گئے ہوگے اس کی فارسی بناؤ۔

۵۔ پرسیده شده باشی کا ترجمہ کرو۔

۶۔ میں نے تعریف کی ہوگی اس کی فارسی بناؤ۔

۷۔ رفت سے جمع متکلم ماضی احتمالی معروف کا صیغہ بناؤ

۸۔ نگفتہ باشد کا ترجمہ کرو۔

| آزاریدن | بریدن | شستن | طلبیدن | فروختن | خریدن |
|---|---|---|---|---|---|
| ستانا | کاٹنا | دھونا | بلانا | بیچنا | مول لینا |

## سوالات

خریده باشید، فروختہ بودم، طلبیده شده باشند، آزاریده بودی، می برید

نشستہ باشد، نرفتہ بودم، ایستاده اند، آورده شده باشید، طلبیده شده بودیم، نرسیده

فارسی بناؤ :- انہوں نے ستایا ہوگا، تم بُلائے گئے تھے، میں نے مول لیا ہے، اس نے بچا ہوگا، ہم نہیں ستاتے تھے، تو نے اٹھایا تھا، میں بخشا گیا ہوں، وہ دیا گیا ہوگا تم پسند کئے گئے ہوگے، ہم تعریف کرتے تھے، تو نوازا گیا تھا، وہ نہیں گئے ہونگے۔

# سبق (۹) ماضی تمنائی کا بیان

ماضی تمنائی وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کی آرزو سمجھی جائے ماضی مطلق کے آخر میں "ے" زیادہ کر کے ماضی تمنائی بناتے ہیں جیسے پرورد سے پروردے۔ تنبیہ :- اس قاعدے کے مطابق صرف تین صیغے آتے ہیں۔ واحد غائب جمع غائب، واحد متکلم باقی صیغوں میں "ے" ادا کرنا دشوار ہے۔ اس لئے اہل زبان اُن سے پہلے کاشکے لاتے ہیں۔

## گردان ماضی تمنائی معروف

| صیغہ | واحد غائب | جمع غائب | واحد حاضر | جمع حاضر | واحد متکلم | جمع متکلم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فارسی | پروردے | پروردندے | کاشکہ پروردی | کاشکہ پروردید | پروردے | کاشکہ پروردیم |
| اردو | کاشکہ وہ پالتا | کاشکہ وہ پالتے | کاشکہ تو پالتا | کاشکہ تم پالتے | کاشکہ میں پالتا | کاشکہ ہم پالتے |

## گردان ماضی تمنائی مجہول

| صیغہ | واحد غائب | جمع غائب | واحد حاضر | واجمع متکلم | ولحد متکلم | جمع متکلم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فارسی | پرورده شدے | پرورده شدندے | کاشکہ پرورده شدی | کاشکہ پرورده شدید | پرورده شدے | کاشکہ پرورده شدیم |
| اردو | کاشکہ وہ پالا جاتا | کاشکہ وہ پالے جاتے | کاشکہ تو پالا جاتا | کاشکہ تم پالے جاتے | کاشکہ میں پالا جاتا | کاشکہ ہم پالے جاتے |

[۱] اردو میں مصدر کے آخر کا نا تا سے بدلکر ماضی تمنائی بناتے ہیں جیسے پالنا سے پالتا [۲] کیا اچھا ہوتا۔

## سوالات

۱:- ماضی تمنائی کسطرح بنائی جاتی ہے۔
۲:- تین صیغوں میں "ے" کیوں نہیں آتی۔
۳:- آوردن سے ماضی تمنائی کی گردان کرو۔
۴:- بخشیدہ شدے کیا صیغہ ہے مع معنی بتاؤ
۵:- کیا اچھا ہوتا کہ تم پڑھتے اسکی فارسی بناؤ۔
۶:- کاشکہ پسندیدہ شدی، کیا صیغہ ہے۔
۷:- کیا اچھا ہوتا کہ وہ تعریف کئے جاتے۔
۸:- ماضی احتمالی اور تمنائی میں کیا فرق ہے۔

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| فرستادن | یافتن | دیدن | گماشتن | پرستیدن | آموختن |
| بھیجنا | پانا | دیکھنا | مقرر کرنا | پوجنا | سیکھنا |

## اردو میں ترجمہ کرو

آموختمے، کاشکہ پرستیدید، گماشتہ شدندے، کاشکہ دیدیم، فرستادہ شدے کاشکہ یافتی، پرسیدہ شدہ باشند، پسندیدہ شدمے، می آموختی، خواندہ بود، کاشکہ نوشتیم، طلبیدندے۔

**فارسی بناؤ:-** کیا اچھا ہوتا کہ ہم خریدتے، انہوں نے نہیں بیچا ہوگا، تم ستاتے تھے، کیا اچھا ہوتا کہ وہ بھیجتے، اس نے بلایا تھا، کیا اچھا ہوتا کہ تو آتا، ہم نے پوچھا ہے۔ کیا اچھا ہوتا کہ تم بلائے جاتے، وہ پسند کیا گیا ہے، میں گیا تھا، کیا اچھا ہوتا کہ وہ لکھتے۔

## سبق (۱۰) مضارع کا بیان

فعل مضارع وہ ہے جس سے زمانہ موجودہ یا آئندہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ مضارع معروف بنانے کا کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں اتنا سمجھ لینا چاہیئے کہ

صیغہ واحد غائب کے آخر میں "د" ساکن اور اس سے پہلے زبر ہوتا ہے، باقی صیغوں میں دال کی بجائے ان صیغوں کی علامتیں ہوتی ہیں۔

مضارع مجہول ماضی مطلق کے آخر میں شود زیادہ کر کے بناتے ہیں جیسے پرورد سے پرورده شود[1]

## گردان مضارع معروف

| صیغہ | واحد غائب | جمع غائب | واحد حاضر | جمع حاضر | واحد متکلم | جمع متکلم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فارسی | پرورد | پرورند | پروری | پرورید | پرورم | پروریم |
| اردو | وہ پالے | وہ پالیں | تو پالے | تم پالو | میں پالوں | ہم پالیں |

## گردان مضارع مجہول

| صیغہ | واحد غائب | جمع غائب | واحد حاضر | جمع حاضر | واحد متکلم | جمع متکلم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فارسی | پرورده شود | پرورده شوند | پرورده شوی | پرورده شوید | پرورده شوم | پرورده شویم |
| اردو | وہ پالا جائے | وہ پالے جائیں | تو پالا جائے | تم پالے جاؤ | میں پالا جاؤں | ہم پالے جائیں |

## سوالات

۱۔ مضارع کی تعریف کرو۔

۲۔ مضارع کی کیا پہچان ہے۔

۳۔ آورد سے مضارع کی گردان سناؤ۔

۴۔ آوریم کا ترجمہ کرو۔

۵۔ مضارع معروف و مجہول میں کیا فرق ہے۔

۶۔ میں پالا جاؤں اسکی فارسی بناؤ۔

۷۔ آورید کیا صیغہ ہے۔

۸۔ پرورده شوند کا ترجمہ کرو۔

---

[1] اردو میں مصدر کے نا کی جگہ ے لگا کر مضارع بناتے ہیں جیسے پالنا سے پالے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ پالتا ہے یا پالے (زمانہ موجودہ یا آئندہ میں)

| گوید | خواند | نویسد | خورد | نوشد | بخشد |
|---|---|---|---|---|---|
| کہے | پڑھے | لکھے | کھائے | پیئے | بخشے |

## اردو میں ترجمہ کرد

بخشیدہ شوی ، نخورید ، نویسم ، خوانی ، گفتہ شوند ، نوشد ، خورند ، بخشیدہ شویم ، نہ نوشد ، گویم ، نوشتہ شوی ، آورد ۔

فارسی بناؤ :۔ وہ بخشے جائیں ، میں پڑھوں ، تم لکھو ، وہ نہ ستایا جائے ، ہم بلائے جائیں . تو لائے ، وہ کھڑا کیا جائے ، ہم نہ کہیں تم کھاؤ ۔ وہ پیئیں ، میں نہ پہچانا جاؤں ، وہ بخشیں ۔

## سبق (۱۱) حال کا بیان

فعل حال وہ ہے جس سے زمانہ موجودہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے ۔

مضارع سے پہلے می یا ہمی لگا کر حال بناتے ہیں جیسے پرورد سے می پرورد یا ہمی پرورد[1]

فائدہ :۔ حال مجہول میں شود سے پہلے مُی یا ہمیٰ لگاتے ہیں جیسے پروردہ می شود ۔

## گردان حال معروف

| صیغہ | واحد غائب | جمع غائب | واحد حاضر | جمع حاضر | واحد متکلم | جمع متکلم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فارسی | می پرورد | می پرورند | می پروری | می پرورید | می پرورم | می پروریم |
| اردو | وہ پالتا ہے | وہ پالتے ہیں | تو پالتا ہے | تم پالتے ہو | میں پالتا ہوں | ہم پالتے ہیں |

[1] اردو میں مصدر کے نا کو دور کر کے تا ہے لگا کر حال بناتے ہیں جیسے پالنا سے پالتا ہے ۔

# گردان حال مجہول

| صیغہ | واحد غائب | جمع غائب | واحد حاضر | جمع حاضر | واحد متکلم | جمع متکلم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فارسی | پرورده می شود | پرورده می شوند | پرورده می شوی | پرورده می شوید | پرورده می شوم | پرورده می شویم |
| اردو | وہ پالا جاتا ہے | وہ پالے جاتے ہیں | تو پالا جاتا ہے | تم پالے جاتے ہو | میں پالا جاتا ہوں | ہم پالے جاتے ہیں |

## سوالات

۱:۔ حال مجہول بنانے کا قاعدہ بتاؤ۔
۲:۔ آوردن سے حال معروف کی گردان سناؤ۔
۳:۔ آورده می شوند کا ترجمہ کرو۔
۴:۔ تم پالتے ہو اسکی فارسی بتاؤ۔
۵:۔ ہمی پروریم کیا صیغہ ہے مع معنی بتاؤ۔
۶:۔ میں پالا جاتا ہوں اسکی فارسی بناؤ۔
۷:۔ طلبیدن سے حال مجہول کی گردان کرو۔
۸:۔ می گوئی کیا صیغہ ہے۔

## اردو میں ترجمہ کرو

می گویم، پرورده می شوند، نمی خواند، طلبیده می شوید، نمی خوریم، می نوشی، آزاریده می شوید، می پروری، بخشیده می شوم۔ نمی نوشد، شناختہ نمی شود،

فارسی بناؤ:۔ وہ پڑھتا ہے، تو پالا جاتا ہے، میں نہیں پیتا ہوں، تم کھاتے ہو، ہم نہیں ستائے جاتے ہیں، تو کہتا ہے، وہ بخشے جاتے ہیں، میں لکھتا ہوں، تم نہیں بلائے جاتے ہو۔

## سبق (۱۲) مستقبل کا بیان

فعل مستقبل وہ ہے جس سے زمانہ آئندہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔

ماضی سے پہلے لفظ خواہد لگا کر مستقبل بناتے ہیں جیسے پرورد سے خواہد پرورد [1]

فائدہ:۔ مجہول میں شد سے پہلے لفظ خواہد آتا ہے جیسے پرورده خواهد شد۔

---

[1] اردو میں مضارع کے آخر گا بڑھا کر مستقبل بناتے ہیں جیسے پالے سے پالے گا۔

نیز تمام صیغوں کی علامتیں لفظ خواہد میں داخل کی جاتی ہیں جیسا گردانوں سے ظاہر ہے۔

## گردان مستقبل معروف

| صیغہ | واحد غائب | جمع غائب | واحد حاضر | جمع حاضر | واحد متکلم | جمع متکلم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فارسی | خواہد پرورد | خواہند پرورد | خواہی پرورد | خواہید پرورد | خواہم پرورد | خواہیم پرورد |
| اردو | وہ پالے گا | وہ پالیں گے | تو پالے گا | تم پالو گے | میں پالوں گا | ہم پالیں گے |

## گردان مستقبل مجہول

| صیغہ | واحد غائب | جمع غائب | واحد حاضر | جمع حاضر | واحد متکلم | جمع متکلم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فارسی | پرورده خواہد شد | پرورده خواہند شد | پرورده خواہی شد | پرورده خواہید شد | پرورده خواہم شد | پرورده خواہیم شد |
| اردو | وہ پالا جائیگا | وہ پالے جائیں گے | تو پالا جائیگا | تم پالے جاؤ گے | میں پالا جاؤنگا | ہم پالے جائیں گے |

## سوالات

۱:- فعل مستقبل کی تعریف کرو۔

۲:- مستقبل مجہول میں لفظ خواہد کہاں آتا ہے۔

۳:- صیغوں کی علامتیں کس جگہ داخل کی جاتی ہیں۔

۴:- گفت سے مستقبل معروف کی گردان سناؤ۔

۵:- خواہیم آورد کیا صیغہ ہے۔

۶:- خواہید رفت کا ترجمہ کرو۔

۷:- پرسید سے مستقبل مجہول کی گردان کرو۔

۸:- سپرده خواہی شد کیا صیغہ ہے مع معنی بتاؤ۔

## اردو میں ترجمہ کرو

خواہیم آمد، خواہید رفت، طلبیدہ خواہند شد، نخواہی گفت بخشیدہ خواہم شد، دیدہ خواہد شد، خواہند پاشید، آمرزیدہ خواہید شد، خواہم آورد۔ نخواہی آمد،

فارسی بناؤ:۔ وہ لکھے گا، میں پڑھوں گا، تم بلائے جاؤ گے، ہم لائیں گے، وہ نہیں کھائیں گے، تو پیئے گا، وہ پسند نہیں کئے جائیں گے۔ تم نوازو گے، ہم نہیں ستائیں گے، وہ تعریف کیا جائیگا

## سبق (۱۳) امر کا بیان

فعل امر وہ ہے جس سے کسی کام کا حکم دیا جائے۔

مضارع سے پہلے ب داخل کر کے امر بناتے ہیں اور واحد حاضر کے صیغہ سے ی دور کر دیتے ہیں۔ [۱]

فائدہ:۔ کبھی غائب اور متکلم کے صیغوں میں بجائے ب کے باید لگا دیتے ہیں۔

فائدہ:۔ فعل پر جب ب داخل ہو تو پہلا حرف دیکھیں، اگر اس پر پیش ہو تو ب کو بھی پیش پڑھیں، ورنہ زیر اور جب اسم پر آئے تو ہمیشہ زبر پڑھیں۔

### گردان امر معروف

| صیغہ | واحد غائب | جمع غائب | واحد حاضر | جمع حاضر | واحد متکلم | جمع متکلم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فارسی | باید کہ پرورد | باید کہ پرورند | بپرور | بپرورید | باید کہ پرورم | باید کہ پروریم |
| اردو | چاہیئے کہ وہ پالے | چاہیئے کہ وہ پالیں | تو پال | تم پالو | چاہیئے کہ میں پالوں | چاہیئے کہ ہم پالیں |

[۱] اردو میں مضارع سے پہلے چاہیئے کہ داخل کر کے امر بناتے ہیں۔ حاضر کے صیغوں میں اسکی بھی حاجت نہیں بلکہ واحد حاضر سے ے بھی گرا دیتے ہیں جیسے تو پالے تو پال۔

# گردان امر مجہول

| صیغہ | واحد غائب | جمع غائب | واحد حاضر | جمع حاضر | واحد متکلم | جمع متکلم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فارسی | باید کہ پرورده شود | باید کہ پرورده شوند | پرورده شو | پرورده شوید | باید کہ پرورده شوم | باید کہ پرورده شویم |
| اردو | چاہیے کہ وہ پالا جائے | چاہیے کہ وہ پالے جائیں | تو پالا جائے | تم پالے جاؤ | چاہیے کہ میں پالا جاؤں | چاہیے کہ ہم پالے جائیں |

# سوالات

۱:۔ امر کس طرح بناتے ہیں۔

۲:۔ امر غائب اور حاضر میں کیا فرق ہے۔

۳:۔ امر کی ب کو کہاں کہاں پیش اور زیر پڑھتے ہیں۔

۴:۔ اسم پر جو ب آتی ہے اسے کیا پڑھتے ہیں۔

۵:۔ باید کہ آورده شوند کیا صیغہ ہے مع معنی بتاؤ۔

۶:۔ چاہیئے کہ وہ بلائے جائیں اس کی فارسی بناؤ۔

۷:۔ بنویس کیا صیغہ ہے، ترجمہ کرو۔

۸:۔ تو بیچا نا جا اس کی فارسی بناؤ۔

## اُردُو میں ترجمہ کرو

باید کہ خوانند، بنویسد، باید کہ شناختہ شوم، بنوش، باید کہ خوریم، باید کہ طلبیده

شوند، باید کہ آمرزیدہ شود، بگوئید، باید کہ خوانیم، باید کہ پسندیدہ شوند، بپرور۔

## فارسی بناؤ

تم کھاؤ، چاہیئے کہ ہم پئیں، چاہیئے کہ وہ تعریف کیا جائے، تو پڑھ، چاہیئے کہ وہ لکھیں۔ چاہیئے کہ تم بھیجے جاؤ۔ چاہیئے کہ میں کہوں، چاہیئے کہ وہ مقرر کیا جائے تم بخشو، چاہیئے کہ ہم پوچھے جائیں۔

## سبق (۱۴) نہی کا بیان

فعل نہی وہ ہے جس میں کسی کام سے روکا جائے۔

امر غائب اور متکلم کے صیغوں میں بجائے ب کے ن اور حاضر کے صیغوں میں م لگا کر نہی بناتے ہیں۔ [1]

## گردان نہی معروف

| صیغہ | واحد غائب | جمع غائب | واحد حاضر | جمع حاضر | واحد متکلم | جمع متکلم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فارسی | باید کہ نپرورد | باید کہ نپرورند | مپرور | مپرورید | باید کہ نپرورم | باید کہ نپروریم |
| اردو | چاہیئے کہ وہ نہ پالے | چاہیئے کہ وہ نہ پالیں | تو نہ پال | تم نہ پالو | چاہیئے کہ میں نہ پالوں | چاہیئے کہ ہم نہ پالیں |

[1] اردو میں امر سے پہلے نہ لگا کر نہی بناتے ہیں۔ جیسے پال سے نہ پال۔

# گردان نہی مجہول

| صیغہ | واحد غائب | جمع غائب | واحد حاضر | جمع حاضر | واحد متکلم | جمع متکلم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فارسی | باید کہ نپروردہ شود | باید کہ نپروردہ شوند | نپروردہ شو | نپروردہ شوید | باید کہ نپروردہ شوم | باید کہ نپروردہ شویم |
| اردو | چاہیئے کہ وہ نہ پالا جائے | چاہیئے کہ وہ نہ پالے جائیں | تو نہ پالا جا | تم نہ پالے جاؤ | چاہیئے کہ میں نہ پالا جاؤں | چاہیئے کہ ہم نہ پالے جائیں |

## سوالات

۱:۔ نہی کی تعریف کرو۔

۲:۔ نہی بنانے کا قاعدہ بیان کرو۔

۳:۔ نہی کے کن کن صیغوں میں ن اور کن میں م آتی ہے۔

۴:۔ نہی مجہول میں م کہاں داخل کرتے ہیں۔

۵:۔ مگوئید کیا صیغہ ہے مع معنی بتاؤ۔

۶:۔ چاہیئے کہ وہ نہ تعریف کئے جائیں اس کی فارسی بناؤ۔

۷:۔

۷:۔ باید کہ نہ پسندیدہ شوند کا ترجمہ کرو۔

## اردو میں ترجمہ کرو

باید کہ نہ گویم ۔ باید کہ پرسیدہ شوند ۔ نخواں ۔ باید کہ نونشیم باید کہ نخورد

باید کہ اندوختہ شوند ۔ باید کہ بخشد ۔ باید کہ طلبیدہ نشوند ۔ مگو بنویس ۔

## فارسی بناؤ

چاہیئے کہ ہم نہ کھائیں ۔ چاہیئے کہ تم نہ پیو ۔ چاہیئے کہ وہ نہ بلائے جائیں ۔ چاہیئے کہ تو نہ بخشا جائے ۔ تم نہ لکھو ۔ چاہیئے کہ وہ نہ پڑھے ۔ چاہیئے کہ میں نہ تعریف کیا جاؤں ۔ تو نہ لا ۔ چاہیئے کہ ہم نہ کہیں ۔

## سبق (۱۵) مشتق کا بیان

مشتق وہ ہے جو دوسرے لفظ سے بنا ہو ۔ اسم مشتق کی چھ قسمیں ہیں ۔ اسم فاعل[۱] اسم مفعول[۲] ۔ اسم تفضیل[۳] ۔ اسم ظرف[۴] ۔ اسم آلہ[۵] ۔ حاصل مصدر[۶] ۔

## سبق (۱۶) اسم فاعل کا بیان

اسم فاعل وہ ہے جو ایسی ذات کو بتائے جس سے فعل ظاہر ہوا ہو ۔

امر کے آخر میں زیر دیکر ندہ بڑھا کر اسم فاعل بناتے ہیں جیسے پرورد : سے پرورندہ[۱]

فائدہ :۔ اسم فاعل کے صرف دو صیغے آتے ہیں ۔ واحد[۱] ۔ جمع[۲]

جمع کیلئے آخر میں ان زیادہ کرتے ہیں ۔ اور اگر آخری حرف ہ ہو تو اسے گ سے بدلتے ہیں ۔ جیسے پرورندہ سے پرورندگان ۔

---

[۱] اردو میں مصدر کے آخری نفقہ انکو ئے سے بدل کر والا بڑھا کر اسم فاعل بناتے ہیں جیسے پالنا سے پالنے والا ۔

# گردان اسم فاعل

| جمع | واحد | صیغہ |
|---|---|---|
| پروردگان | پروردہ نده | فارسی |
| پالنے والے | پالنے والا | اردو |

# سوالات

۱۔ اسم فاعل بنانے کا کیا قاعدہ ہے۔
۲۔ تاب سے اسم فاعل کی گردان کرو۔
۳۔ فروش سے اسم فاعل جمع کا صیغہ بتاؤ۔
۴۔ پالنے والا اسکی فارسی بناؤ۔
۵۔ پرورندگان۔ اس کا ترجمہ کرو۔
۶۔ خموش سے اسم فاعل کے صیغے بتاؤ۔
۷۔ جوئندگان۔ کیا صیغہ ہے۔
۸۔ آورندہ کا ترجمہ کرو۔

## اسم مفعول کا بیان

اسم مفعول وہ ہے جو ایسی ذات کو بتائے جس پر فعل واقع ہوا ہو۔ مصدر کے آخری نون کو ہ سے بدل کر اسم مفعول بناتے ہیں جیسے پروردن سے پروردہ [1]

---

[1] اردو میں ماضی مطلق کے آخر میں ہوا زیادہ کر کے اسم مفعول بناتے ہیں جیسے پالا سے پالا ہوا۔

## گردان اسم مفعول

| جمع | واحد | صیغہ |
|---|---|---|
| پروردگان | پرورده | فارسی |
| پالے ہوئے | پالا ہوا | اردو |

# اسم تفضیل کا بیان

اسم تفضیل وہ ہے جو کسی کام کرنے والے کی بڑائی ظاہر کرے
اسم فاعل کے آخر میں "تر" زیادہ کر کے اسم تفضیل بناتے ہیں جیسے پرورندہ سے پرورندہ تر [1]

## گردانِ اسم تفضیل

| جمع | واحد | صیغہ |
|---|---|---|
| پرورندہ تران | پرورندہ تر | فارسی |
| زیادہ پالنے والے | زیادہ پالنے والا | اردو |

## سوالات

۱:۔ اسم تفضیل کی تعریف کرو۔

[1] اردو میں اسم فاعل سے پہلے زیادہ لگا کر اسم تفضیل بناتے ہیں جیسے پالنے والا سے زیادہ پالنے والا۔

۲:۔ اسم تفضیل کیسے بناتے ہیں ۔
۳:۔ نویسندہ سے اسم تفضیل کی گردان کرو۔
۴:۔ بخشندہ تر کا ترجمہ کرو ۔
۵:۔ آورندہ تران کیا صیغہ ہے ۔
۶:۔ زیادہ ڈھونڈھنے والا اسکی فارسی بناؤ ۔
۷:۔ نوشندہ کا ترجمہ کرو ۔
۸:۔ زیادہ کھانیوالے اسکی فارسی بناؤ ۔

# اسم ظرف کا بیان

اسم ظرف وہ ہے جو کسی کام کی جگہ یا وقت کو بتائے ۔
حاصل مصدر کے آخر میں "گاہ" بڑھا کر اسم ظرف بناتے ہیں ۔ جیسے آرام سے آرام گاہ (آرام کی جگہ یا وقت)
کبھی امر سے پہلے کسی اسم کو ملا دیتے ہیں جیسے زرخیز (سونا پیدا ہونے کی جگہ)

# اسم آلہ کا بیان

اسم آلہ وہ ہے جس سے کسی کام کا اوزار سمجھا جائے ۔
امر سے پہلے کسی اسم کو زیادہ کر کے اسم آلہ بناتے ہیں جیسے زرکوب (سونا کاٹنے کا آلہ)

# حَاصِلُ مَصْدَر کا بیَانْ

حاصل مصدر وہ ہے جو مصدر کا نتیجہ بتائے جیسے پروردن سے پرورش (پلائی) اس کے بنانے کا بھی کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں ۔ لہٰذا ہر مصدر کے ساتھ اسے بھی لکھ دیا جائے گا ۔

# مصادر

## ا

| مصدر | معنی مصدر | حاصل مصدر | ظرف زمان وغیرہ | مضارع | امر | اسم فاعل ترکیبی | اسم فاعل سماعی | اسم مفعول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آختن | تلوار کھینچنا | - | - | - | - | - | - | آختہ |
| آراستن | سنوارنا | آرائش | - | آراید | بیارائے | آرائندہ | جہاں آرا | آراستہ |
| آرامیدن | آرام کرنا<br>آرام دینا | آرامش<br>آرام<br>آرمش | - | آرامد | بیارام | آرامندہ | دل آرام | آرامیدہ |
| آرمیدن | آرام کرنا | - | - | - | - | - | - | آرمیدہ |
| آروغیدن | ڈکار لینا | آروغ | - | آروغد | بیاروغ | آروغندہ | - | - |
| آزمودن | آزمانا | آزمائش | - | آزماید | بیازمائے | آزمائندہ | کار آزما | آزمودہ |
| آسودن | آرام کرنا | آسودگی | - | آساید | بیاسائے | آسائندہ | - | آسودہ |
| آشامیدن | پینا | آشام | - | آشامد | بیاشام | آشامندہ | دردآشام | آشامیدہ |
| آشفتن | پریشان کرنا | آشوب | - | آشوبد | بیاشوب | آشوبندہ | شہر آشوب | آشفتہ |
| آغازیدن | شروع کرنا | آغاز | - | آغازد | بیاغاز | آغازندہ | - | آغازیدہ |
| آغشتن | آلودہ ہونا | - | - | - | - | - | - | آغشتہ |
| آفریدن | پیدا کرنا | آفرینش | - | آفریند | بیافریں | آفرینندہ | جہاں آفریں | آفریدہ |
| آگاہیدن | خبردار کرنا | آگاہی | - | آگاہد | بیاگاہ | - | خدا آگاہ | - |

| مصدر | معنی مصدر | حاصل مصدر | طریقِ تعدیہ | مضارع | امر | اسم فاعل قیاسی | اسم فاعل سماعی | اسم مفعول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آگندن | بھرنا | ۔ | ۔ | آگند | آگن | ۔ | ۔ | آگندہ |
| آلائیدن | آلودہ ہونا<br>آلودہ کرنا | آلائش | ۔ | آلاید | بیالائے | آلائندہ | ۔ | آلائیدہ |
| آزردن | آزردہ ہونا | آزار<br>آزردگی | ۔ | آزارد | بیازار | آزارندہ | دلآزار | آزردہ |
| آزاریدن | ستانا | آزار | ۔ | آزارد | بیازار | آزارندہ | مردم آزار | آزاریدہ |
| آلودن | آلودہ ہونا | آلودگی | ۔ | ۔ | ۔ | ۔ | ۔ | آلودہ |
| آماسیدن | سوجنا | آماس | ۔ | آماسد | ۔ | آماسندہ | ۔ | آماسیدہ |
| آمرزیدن | بخشنا | آمرزش | آمرزانیدن | آمرزد | بیامرز | آمرزندہ | آمرزگار | آمرزیدہ |
| آموختن | سیکھنا<br>سکھانا | آموزش | ۔ | آموزد | بیاموز | آموزندہ | ادب آموز<br>آموزگار | آموختہ<br>دست آموز |
| آمودن | بھرنا سنوارنا | ۔ | ۔ | ۔ | ۔ | ۔ | ۔ | آمودہ |
| آمیختن | ملنا ملانا | آمیزش | ۔ | آمیزد | بیامیز | آمیزندہ | مصلحت آمیز<br>مردم آمیز | آمیختہ |
| آہیختن | تلوار کھینچنا | ۔ | ۔ | ۔ | ۔ | ۔ | ۔ | آہیختہ |
| آویختن | لٹکنا لٹکانا | آویزش | آویزانیدن | آویزد | بیاویز | آویزندہ | دل آویز | آویختہ |
| ارزیدن | قیمت پانا | ارزش | ۔ | ارزد | بیارز | ارزندہ | کم ارز | ارزیدہ |
| استادن<br>ایستادن | کھڑا ہونا | استادگی | ۔ | استد | بایست | ۔ | ۔ | استادہ |
| استردن | صاف کرنا<br>مونڈنا | ۔ | ۔ | ۔ | ۔ | استرندہ | استرد | استردہ |

| مصدر | معنی مصدر | حاصل مصدر | طریق تعدیہ | مضارع | امر | اسم فاعل قیاسی | اسم فاعل سماعی | اسم مفعول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| افتادن اوفتادن | گرپڑنا | افتاد | - | افتد | بیفت | - | افتاں | افتادہ |
| افراختن | بلند کرنا | - | - | افرازد | بیفراز | افرازندہ | سرافراز | افراختہ |
| افراشتن | بلند کرنا | - | - | - | - | - | - | افراشتہ |
| افروختن | روشن کرنا | - | افروزانیدن | افروزد | بیفروز | افروزندہ | عالم افروز | افروختہ |
| افزودن | بڑھنا بڑھانا | افزائش افزود | - | افزاید | بیفزائے | افزائندہ | روزافزوں نورافزا | افزودہ |
| افشاندن | جھاڑنا پچھوڑنا | افشاں | - | افشاند | بیفشاں | افشانندہ | ظل افشاں | افشاندہ |
| آوردن | لانا | - | - | آورد | بیار | آرندہ | - | آوردہ |
| افسردن | ٹھٹھرنا | - | - | افسرد | - | - | - | افسردہ |
| افشردن | نچوڑنا | افشار | افشرانیدن | افشارد | بیفشار | افشارندہ | - | افشردہ |
| افگندن | ڈالنا | افگندگی | - | افگند | بیفگن | افگندہ | شیرافگن | افگندہ |
| انباردن | ڈھیر کرنا پاٹنا | - | - | انبارد | بینبار | انبارندہ | - | انباردہ |
| انبودن | ایک دوسرے پر چننا | - | - | - | - | - | - | انبودہ |
| انباشتن | پاٹنا ڈھیر کرنا | - | - | - | - | - | - | انباشتہ |
| انجامیدن | تمام ہونا | انجام | - | انجامد | - | انجامندہ | - | انجامیدہ |
| انداختن | ڈالنا | انداز اندازہ | - | اندازد | بینداز | اندازندہ | تیرانداز | انداختہ |

| مصدر | معنی مصدر | حاصل مصدر | مصدر متعدی | مضارع | امر | اسم فاعل قیاسی | اسم فاعل سماعی | اسم مفعول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اندوختن | جمع کرنا | - | اندوزانیدن | اندوز | بیندوز | اندوزنده | غم اندوز | اندوخته |
| اندودن | جمع کرنا لیپنا | - | - | انداید | بیندائی | اندائنده | گل اندائے | اندوده |
| اندیشیدن | سوچنا | اندیشه | - | اندیشد | بیندیش | اندیشنده | دوراندیش | اندیشیده |
| انگاردن | معلوم کرنا | - | - | انگارد | بینگار | انگارنده | - | انگارده |
| انگاشتن | معلوم کرنا | .. | - | - | - | - | - | انگاشته |
| انگیختن | اٹھانا | انگیزش انگیز | انگیزانیدن | انگیزد | بینگیز | انگیزنده | فتنه انگیز | انگیخته |

# ب

| مصدر | معنی مصدر | حاصل مصدر | مصدر متعدی | مضارع | امر | اسم فاعل قیاسی | اسم فاعل سماعی | اسم مفعول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| باختن | کھیلنا | باخت | - | بازد | بباز | بازنده | قمارباز | باخته |
| باریدن | برسنا برسانا | بارش | - | بارد | ببار | بارنده | - | باریده |
| بافتن | بننا | باخت | - | بافد | بباف | بافنده | نورباف | بافته |
| بالیدن | آزاد ہونا جسم کا بڑھنا | بالیدگی بالش | - | بالد | ببال | بالنده | - | بالیده |
| بایستن | چاہیے ہونا ضروری ہونا | - | - | باید | - | - | - | بایسته |
| بخشودن | بخشنا | بخشائش | - | بخشاید | ببخشائے | بخشائنده | - | بخشوده |
| بخشیدن | بخشنا | بخشش | - | بخشد | ببخش | بخشنده | خطابخش | بخشیده |

| مصدر | معنی مصدر | حاصل مصدر | طریق تعدیہ | مضارع | امر | اسم فاعل قیاسی | اسم فاعل سماعی | اسم مفعول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| برآمدن | باہر نکلنا بلند ہونا | برآمد | - | برآید | برآے | برآئندہ | - | برآمدہ |
| برآوردن | باہر لانا | - | - | برآورد | برآور | برآورندہ | - | برآوردہ |
| برداشتن | اٹھانا | - | - | بردارد | بردار | بردارندہ | علم بردار | برداشتہ |
| بردن | لیجانا | - | - | برد | ببر | برندہ | نامہ بر | بردہ |
| برشتن | بھوننا | برشت | بریانیدن | - | - | - | - | برشتہ |
| برگشتن | پھرنا | برگشتگی | - | برگردد | برگرد | - | - | برگشتہ |
| بریدن | کاٹنا | برش | - | برد | ببر | برندہ | کیسہ بر | بریدہ |
| بستن | باندھنا | بند و بست بندش | - | بندد | ببند | بندندہ | شکستہ بند | بستہ |
| بودن | ہونا، رہنا | بود | - | باشد | بباش | باشندہ | خوش باش | بودہ |
| بوسیدن | چومنا بوسیدہ ہونا | بوسہ بوسیدگی | - | بوسد | ببوس | بوسندہ | زمیں بوس | بوسیدہ |
| بیختن | چھاننا | - | بیزانیدن | بیزد | بہ بیز | بیزندہ | غلہ بیز | بیختہ |
| بوئیدن | بو دینا سونگھنا | - | بویانیدن | بوید | بوے | بوئیدہ | بویا | بوئیدہ |

## پ

| مصدر | معنی مصدر | حاصل مصدر | طریق تعدیہ | مضارع | امر | اسم فاعل قیاسی | اسم فاعل سماعی | اسم مفعول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پاریدن | ٹکڑے ہونا پھٹا ہونا | - | - | - | - | - | - | پاریدہ |
| پاشیدن | بکھیرنا چھڑکنا | - | - | پاشد | بپاش | پاشندہ | گہر پاش | پاشیدہ |

| مصدر | معنی مصدر | حاصل مصدر | طریق تعدیہ | مضارع | امر | اسم فاعل قیاسی | اسم فاعل سماعی | اسم مفعول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پالودن | صاف کرنا | پالائش | - | پالاید | بپالائے | پالندہ | - | پالودہ |
| پائیدن | ٹھہرنا | پائیدگی | - | پاید | بپائے | پائندہ | دیرپائے | پائیدہ |
| پختن | پکانا | پزش | پزانیدن | پزد | بپز | پزندہ | - | پختہ |
| پذیرفتن | قبول کرنا | پذیرائی | - | پذیرد | بپذیر | پذیرندہ | پوزش پذیر | پذیرفتہ |
| پرداختن | خالی کرنا<br>مشغول ہونا | پرداخت | - | پردازد | بپرداز | پردازندہ | چہرہ پرداز | پرداختہ |
| پرستیدن | پوجنا | پرستش | - | پرستد | بپرست | پرستندہ | بت پرست<br>پرستار | پرستیدہ |
| پرسیدن | پوچھنا | پرسش | - | پرسد | بپرس | پرسندہ | پرساں | پرسیدہ |
| پروردن | پالنا | پرورش | پرورانیدن | پرورد | بپرور | پرورندہ | پروردگار<br>غریب پرور | پروردہ |
| پرہیزیدن | پرہیز کرنا | - | پرہیزانیدن | پرہیزد | بپرہیز | پرہیزندہ | پرہیزگار | پرہیزیدہ |
| پریدن | اڑنا | پرواز | پرانیدن | پرانیدند | پرد | بپر | پرندہ | پریدہ |
| پژمردن | کملانا | - | - | - | - | - | - | پژمردہ |
| پژُریدن | بھرنا | - | - | پرد | بپر | پرندہ | - | پریدہ |
| پژوہیدن | غور کرنا | پژوہش | - | پژوہد | بپژوہ | پژوہندہ | حق پژوہ | پژوہیدہ |
| پسندیدن | پسند کرنا | پسندیدگی | - | پسندد | بپسند | پسندندہ | شکل پسند | پسندیدہ |
| پنداشتن | معلوم کرنا | پندار | - | پندارد | بپندار | پندارندہ | - | پنداشتہ |
| پوشیدن | پہننا چھپانا | پوشش | پوشانیدن | پوشد | بپوش | پوشندہ | خطاپوش | پوشیدہ |
| پوئیدن | دوڑنا | پویا | پویانیدن | پوید | بپوئے | پوئندہ | پویاں | پوئیدہ |

| مصدر | معنی مصدر | حاصل مصدر | طریق تعدیہ | مضارع | امر | اسم فاعل قیاسی | اسم فاعل سماعی | اسم مفعول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پیچیدن | لپٹنا لپیٹنا | پیچ پیچش | پیچانیدن | پیچد | بپیچ | پیچندہ | سرپیچ | پیچیدہ |
| پیراستن | چھانٹنا | پیرائش | . | پیرائید | بپیرائے | پیرائندہ | باغ پیرا | پیراستہ |
| پیمودن | ناپنا | پیمائش | . | پیمائد | بپیمائے | پیمائندہ | بادپیما | پیمودہ |
| پیوستن | ملنا | پیوند | . | پیوندد | بپیوند | . | . | پیوستہ |

## ت

| مصدر | معنی مصدر | حاصل مصدر | طریق تعدیہ | مضارع | امر | اسم فاعل قیاسی | اسم فاعل سماعی | اسم مفعول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاختن | دوڑنا<br>دوڑانا | تازش<br>ترکتاز | . | تازد | بتاز | تازندہ | یکہ تاز | تاختہ |
| تافتن | چمکنا چمکانا | تابش تاب | . | تابد | بتاب | تابندہ | آفتاب عالمتاب | تافتہ |
| تپیدن | تڑپنا | تپش | تپانیدن | تپند | بتپ | تپندہ | تپاں | تپیدہ |
| تراشیدن | چھیلنا کاٹنا | تراش | تراشانیدن | تراشد | بتراش | تراشندہ | تراشاں | تراشیدہ |
| تراویدن | ٹپکنا | تراوش | . | تراود | . | تراوندہ | . | تراویدہ |
| ترسیدن | ڈرنا | ترس | ترسانیدن | ترسد | بترس | ترسندہ | ترساں | ترسیدہ |
| ترکیدن | شق ہونا | . | . | ترکد | . | ترکندہ | . | ترکیدہ |
| تفتن | گرم ہونا | . | . | . | . | . | . | تفتہ |
| تفسیدن | گرم ہونا | . | . | تفسد | بتفس | تفسندہ | تفساں | تفسیدہ |
| تنیدن | تننا | . | . | تند | بتن | تنندہ | . | تنیدہ |

| مصدر | معنی مصدر | حاصل مصدر | طریق تعدیہ | مضارع | امر | اسم فاعل قیاسی | اسم فاعل سماعی | اسم مفعول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توانستن | سکنا | ناتوانی ناتوان | . | تواند | . | توانندہ | توانا | . |
| **ج** | | | | | | | | |
| جَستن | کودنا | جست | جہانیدن | جہد | بجہ | جہندہ | جہاں | جستہ |
| جُستن | ڈھونڈھنا | جستجو جویائی | جوبانیدن | جوید | بجو | جوئیدہ | جویاں | جُستہ |
| جنبیدن | ھلنا | جنبش | جنبانیدن | . | بجنب | جنبندہ | جنباں | جنبیدہ |
| جوشیدن | اُبلنا | جوشش جوش | جوشانیدن | جوشد | بجوش | جوشندہ | جوشاں | جوشیدہ |
| **چ** | | | | | | | | |
| چربیدن | غالب ہونا | . | . | چربد | بچرب | چربندہ | . | چربیدہ |
| چریدن | چرنا | چراں | چرانیدن | چرد | بچر | چرندہ | . | چریدہ |
| چسپیدن | لپٹنا | چسپیدگی | چسپانیدن | چسپد | بچسپ | چسپندہ | دلچسپ | چسپیدہ |
| چشیدن | چکھنا | چاشنی | چشانیدن | چشید | بچش | چشندہ | نمک چش | چشیدہ |
| چکیدن | چمکنا | چکش | چکانیدن | چکد | بچک | چکندہ | خونچکاں | چکیدہ |
| چمیدن | لچکنا | چمش | بچمانیدن | . | بچم | چمندہ | چماں | چمیدہ |
| چیدن | چُننا | . | . | چنید | بچیں | چنندہ | خوشہ چیں | چیدہ |

| مصدر | معنی مصدر | حاصل مصدر | طریق تعدیہ | مضارع | امر | اسم فاعل قیاسی | اسم فاعل سماعی | اسم مفعول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **خ** | | | | | | | | |
| خاریدن | کھجلانا | خارش | ۔ | خارا | بخار | خارنده | پشت خار | خاریده |
| خاستن | اٹھنا | ۔ | ۔ | خیزد | بخیز | خیزنده | سحرخیز | خاسته |
| خاییدن | چباتا | ۔ | ۔ | خاید | بخایے | خاینده | ژاژخا | خاییده |
| خراشیدن | چھیلنا | خراش | ۔ | خراشد | بخراش | خراشنده | سمع خراش | خراشیده |
| خرامیدن | اکڑ کر چلنا | خرام | ۔ | خرامد | بخرام | خرامنده | خوش خرام | خرامیده |
| خروشیدن | شور کرنا | خروشانیدن | خروشد | بخروش | خروشیده | خروشنده | خروشنده | خروشیده |
| خریدن | مول لینا | خرید | ۔ | خرد | بخر | خرنده | بروزن خر خریدار | خریده |
| خزیدن | گھسنا | ۔ | ۔ | خزد | بخز | خزنده | خزان | خزیده |
| خستن | زخمی ہونا | خستگی | ۔ | ۔ | ۔ | ۔ | ۔ | خسته |
| خفتن | سونا | خفت | خپانیدن | خسپد | بخسپ | خسپنده | ۔ | خفته |
| خلیدن | چبھنا | خلش | خلانیدن | خلد | ۔ | خلند | ۔ | خلیده |
| خموشیدن | چپ رہنا | خاموشی | خموشانیدن | خموشد | بخموش | خموش | خاموش | خموشیده |
| خمیدن | ٹیڑھا کرنا | خم خمیدگی | خمانیدن | خمد | بخم | خمنده | ۔ | خمیده |
| خنبیدن | تالی بجانا | ۔ | ۔ | خنبد | بخنب | خننده | ۔ | خنبیده |
| خندیدن | ہنسنا | خند | خندانیدن | خندد | بخند | خندنده | خندان | خندیده |

| مصدر | معنی مصدر | حاصل مصدر | طریق تعدیہ | مضارع | امر | اسم فاعل قیاسی | اسم فاعل سماعی | اسم مفعول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خوابیدن | سونا | خواب | خوابانیدن | خوابد | بخواب | خوابندہ | · | خوابیدہ |
| خواستن | چاہنا | خواہش | · | خواہد | بخواہ | خواہندہ | خیر خواہی خواہاں | خواستہ |
| خواندن | پڑھنا بلانا | · | · | خواند | بخواں | خوانندہ | قرآن خواں | خواندہ |
| خوردن | کھانا | خورش | خورانیدن | خورد | بخور | خورندہ | خونخوار | خوردہ |
| خوشیدن | سوکھنا | · | · | خوشد | بخوش | خوشندہ | · | خوشیدہ |
| خیسیدن | تر ہونا | · | خیسانیدن | خیسد | بخیس | خیسندہ | · | خیسیدہ |

## د

| مصدر | معنی مصدر | حاصل مصدر | طریق تعدیہ | مضارع | امر | اسم فاعل قیاسی | اسم فاعل سماعی | اسم مفعول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دادن | دینا | دہش داد | دہانیدن | دہد | بدہ | دہندہ | نان دہ | دادہ |
| داشتن | رکھنا | داشت | · | دارد | بدار | دارندہ | مالدار | داشتہ |
| دانستن | جاننا | دانش دانائی | · | داند | بداں | دانندہ | حسابداں | دانستہ |
| درخشیدن | کانپنا چمکنا | · | درخشانیدن | درخشد | بدرخش | درخشندہ | · | درخشیدہ |
| درودن | کاٹنا | درود | ،، | درود | بدرو | درودہ | · | درودہ |
| دریدن | پھاڑنا | - | درانیدہ | درد | بدرد | درندہ | مردم در | دریدہ |
| دزدیدن | چرانا | دزدی | · | دزدد | بدزد | دزدندہ | شب دزد | دزدیدہ |
| دمیدن | طلوع ہونا اُگنا | دم | دمانیدن | دمد | بدم | دمندہ | دماں | دمیدہ |
| دوختن | سینا | دوختگی | دوزانیدن | دوزد | بدوز | دوزندہ | خیمہ دوز | دوختہ |

| مصدر | معنی مصدر | حاصل مصدر | طریق تعدیہ | مضارع | امر | اسم فاعل قیاسی | اسم فاعل سماعی | اسم مفعول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشیدن | دوہنا | . | دوشانیدن | دوشد | بدوش | دوشندہ | . | دوشیدہ |
| دویدن | دوڑنا | دوید | . | دود | بدو | دوندہ | دوان | دویدہ |
| دیدن | دیکھنا | دید | . | بیند | ببیں | بینندہ | حق بیں بینا | دیدہ |
| درخشیدن | چمکنا | درخش | درخشانیدن | درخشد | بدرخش | درخشندہ | درخشاں | درخشیدہ |
| **ر** | | | | | | | | |
| راندن | چلانا ہانکنا | . | . | راند | بران | رانندہ | حکمراں | راندہ |
| ربودن | لیجانا | ربودگی | . | رباید | بربا | ربائندہ | دلربا | ربودہ |
| رخشیدن | چمکنا | . | رخشانیدن | رخشد | برخش | رخشندہ | رخشاں | رخشیدہ |
| رزیدن | رنگنا | . | . | رزد | برز | رزندہ | رنگریز | رزیدہ |
| رستن | اگنا | . | . | . | . | . | . | رستہ |
| رستن | چھوٹنا | رستگاری | . | . | . | . | رستگار | رستہ |
| رسیدن | پہونچنا | رسائی | رسانیدن | رسد | برس | رسندہ | فریادرس | رسیدہ |
| رشتن | کاتنا اگنا | . | . | . | . | . | . | رشتہ |
| رفتن | چلنا، جانا | روش، رفتار | . | رود | برو | روندہ | رواں گرم رو | رفتہ |
| رفتن | بہارنا | رفت | روبانیدن | روبد | بروب | روبندہ | روبہاں خاکروب | رفتہ |
| رقصیدن | ناچنا | رقص | رقصانیدن | رقصد | برقص | رقصندہ | رقصاں | . |

| مصدر | معنی مصدر | حاصل مصدر | مصدر متعدی | مضارع | امر | اسم فاعل قیاسی | اسم فاعل سماعی | اسم مفعول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رمیدن | بھاگنا | رم | رمانیدن | رمد | برم | رمندہ | رماں | رمیدہ |
| رنجیدن | آزردہ ہونا | رنجش | رنجانیدن | رنجد | برنج | رنجندہ | زودرنج<br>رنجاں | رنجیدہ |
| رہیدن | چھوٹنا | رہائی | رہانیدن | رہد | برہ | رہندہ | رہا | رہیدہ |
| ریختن | چھڑکانا | ریزش | . | ریزد | بریز | ریزندہ | عرق ریز | ریختہ |
| روئیدن | اگنا | روئیدگی | رویانیدن | روید | - | روئندہ | خودرو | روئیدہ |
| ریدن | ھگنا | - | . | رید | بری | - | - | - |
| رلیسیدن | کاتنا | . | . | رلیسید | برلیس | رلیسندہ | . | رلیسدہ |
| | | . | . | | | | | |

# ز

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زادن | جننا | . | . | . | - | - | آدم زاد | زادہ |
| زاریدن | رونا | زاری | . | زارد | بزار | زارندہ | . | زاریدہ |
| زائیدن | جننا | زائیدگی | . | زاید | بزائے | زائیدہ | . | زائیدہ |
| زدن | مارنا | زنش | . | زند | بزن | زنندہ | شمشیرزن | زدہ |
| زدودن | صیقل کرنا | زدائش | . | زدائید | بزدائے | زدائیدہ | غمزدہ | زدودہ |
| زیستن | جینا | زیست | . | زید | بزی | زیندہ | . | - |

| مصدر | معنی مصدر | حاصل مصدر | طریق تصریح | مضارع | امر | اسم فاعل قیاسی | اسم فاعل سماعی | اسم مفعول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ژ** | | | | | | | | |
| زولیدن | الجھنا | • | • | ژولد | • | • | • | ژولیده |
| **س** | | | | | | | | |
| ساختن | بنانا<br>موافق کرنا | ساخت<br>سازش | • | سازد | بساز | سازنده | زره ساز | ساخته |
| سائیدن | پیسنا | • | • | ساید | بسائے | سائنده | سرمه سا | سائیده |
| سپردن | سونپنا | سپارش | • | سپارد | بسپار | سپارنده | جانسپار | سپرده |
| سپوختن | نکالنا چبھونا | • | • | • | • | • | • | سپوخته |
| سپوزیدن | نکالنا | ستانید | • | سپوزد | بسپوز | سپوزنده | • | سپوزیده |
| ستاندن | نکالنا | ستانید | • | ستاند | بستاں | ستاننده | • | ستانده |
| ستائیدن | سراہنا | ستائش | • | ستاید | بستائے | ستاینده | خودستاں | ستائیده |
| ستدن | لینا | ستد | • | ستاند | بستاں | ستانده | • | ستده |
| ستردن | مونڈنا<br>منڈانا | • | • | سترد | • | سترنده | استره | سترده |
| ستودن | تعریف کرنا | • | • | • | • | • | • | ستوده |

| مصدر | معنی مصدر | حاصل مصدر | طریق تعدیہ | مضارع | امر | اسم فاعل قیاسی | اسم فاعل سماعی | اسم مفعول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ستیزیدن | لڑنا | ستیزہ | ستیزانیدن | ستیزد | ستیزندہ | ستیزائیدہ | ستیزاں | ستیزیدہ |
| سرائیدن | گانا | ۔ | ۔ | سراید | بسرائے | سرائندہ | نغمہ سرا | سرائیدہ |
| سرشتن | گوندھنا | سرشت | ۔ | ۔ | ۔ | ۔ | ۔ | سرشتہ |
| سزیدن | لائق ہونا | سزا | ۔ | سزد | ۔ | سزندہ | سزاوار | ۔ |
| سفتن | بیندھنا<br>پرونا | ۔ | ۔ | ۔ | ۔ | ۔ | ۔ | سفتہ |
| سگالیدن | اندیشہ کرنا | سگال | ۔ | سگالد | بسگال | سگالندہ | خیرسگال | سگالیدہ |
| سوختن | جلنا جلانا<br>روشن کرنا | ۔ | سوزانیدن | سوزد | بسوز | سوزندہ | سوزاں<br>دلسوز | سوختہ |
| سودن | گھسنا | ۔ | ۔ | ۔ | ۔ | ۔ | ۔ | سودہ |
| سنجیدہ | تولنا | ۔ | سنجانیدن | سنجد | بسنج | سنجیدہ | گہرسنج | سنجیدہ |

## ش

| مصدر | معنی مصدر | حاصل مصدر | طریق تعدیہ | مضارع | امر | اسم فاعل قیاسی | اسم فاعل سماعی | اسم مفعول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شاشیدن | پیشاب کرنا | ۔ | ۔ | شاشد | ۔ | شاشندہ | ۔ | شاشیدہ |
| شائستن | لائق ہونا | ۔ | ۔ | شاید | ۔ | شایاں | ۔ | شائستہ |
| شلیدن | سیٹی بجانا | ۔ | شپلانیدن | شپلد | ۔ | شپلندہ | ۔ | شلیدہ |
| شتافتن | دوڑنا | شتاب | ۔ | شتابد | بشتاب | شتابندہ | شتاباں | شتافتہ |
| شدن | ہونا جانا | ۔ | ۔ | شود | بشو | شوندہ | ۔ | شدہ |

| مصدر | معنی مصدر | حاصل مصدر | طریق تعدیہ | مضارع | امر | اسم فاعل قیاسی | اسم فاعل سماعی | اسم مفعول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شستن | دھونا | شست شو | • | شوید | بشو | شوئندہ | پارچہ شو | شستہ |
| شکستن | ٹوٹنا توڑنا | شکن | • | شکند | بشکن | شکنندہ | بت شکن | شکستہ |
| شکیبیدن | صبر کرنا | شکیبائی شکیبیدگی | • | شکیبد | شکیب | شکیبندہ | • | شکیبیدہ |
| شکوخیدن | ٹھوکر مانا | شکوخ | شکوخانیدن | شکوخد | بشکوخ | شکوخندہ | • | شکوخیدہ |
| شگافتن | چیرنا | شگاف | • | شگافد | بشگاف | شگافندہ | خار شگاف | شگافتہ |
| شمردن | گننا | شمار | • | شمارد | بشمار | شمارندہ | اختر شمار | شمردہ |
| شگفتن | کھلنا | شگفت | • | شگفتد | • | • | • | شگفتہ |
| شناختن | پہچاننا | شناخت شناسائی | • | شناسد | بشناس | شناسندہ | شناسا حق شناس | شناختہ |
| شنفتن | سننا | • | • | • | • | • | • | شنفتہ |
| شنیدن | سننا سونگھنا | شنوائی | • | شنود | بشنود | شنوندہ | سخن شنو | شنیدہ |
| شوریدن | شور کرنا برہم ہونا | شورش | شورانیدن | شورد | • | شورندہ | ہلہ شور | شوریدہ |
| شنودن | سننا | شنوائی | • | • | • | • | • | شنودہ |

## ط

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طپیدن | بیقرار ہونا | طپش | طپانیدن | طپد | بطپ | طپندہ | طپاں | طپیدہ |
| طرازیدن | نقش کرنا | طراز | • | طرازد | بطراز | طرازندہ | صورت طراز | طرازیدہ |

| مصدر | معنی مصدر | حاصل مصدر | طریق تعدیہ | مضارع | امر | اسم فاعل قیاسی | اسم فاعل سماعی | اسم مفعول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طلبیدن | بلانا،چاہنا | طلب | .. | طلبد | بطلب | طلبندہ | طلب گار | طلبیدہ |
| **غ** | | | | | | | | |
| غارتیدن | لوٹنا | غارت | . | غارتد | . | . | . | غارتیدہ |
| غنودن | اونگھنا | غنودگی | . | . | . | . | . | غنودہ |
| غلطیدن | لوٹنا لیٹنا | . | غلطانیدن | غلطد | بغلط | غلطندہ | غلطاں | غلطیدہ |
| **ف** | | | | | | | | |
| فتادن | گر پڑنا | . | . | فتد | . | . | . | فتادہ |
| فرستادن | بھیجنا | . | . | فرستد | بفرست | فرستندہ | . | فرستادہ |
| فرسودن | گھسنا | فرسودگی | . | فرساید | بفرسائے | فرسائندہ | جانفرسا | فرسودہ |
| فرمودن | فرمانا | فرمائش | . | فرماید | بفرمائے | فرمائندہ | کارفرما | فرمودہ |
| فروختن | بیچنا | فروش<br>فروخت | فروشانیدن | فروشد | بفروش | فروشندہ | طلافروش | فروختہ |
| فریفتن | فریفتہ ہونا<br>فریب دینا | فریب | . | فریبد | بفریب | فریبندہ | دلفریب | فریفتہ |
| فزودن | زیادہ ہونا | فزائش | . | فزاید | بفزائے | فزائندہ | . | فزودہ |
| فسردن | ٹھٹھرنا | . | . | . | . | . | . | فسردہ |

| مصدر | معنی مصدر | حاصل مصدر | طریق متعدی | مضارع | امر | اسم فاعل قیاسی | اسم فاعل سماعی | اسم مفعول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فشاندن | جھاڑنا | • | • | فشاند | بفشاں | فشاندہ | درفشاں | فشاندہ |
| فشردن | نچوڑنا | فشار | فشارانیدن | فشرد | بفشر | فشرندہ | • | فشردہ |
| فگندن | ڈالنا | • | • | فگند | بفگن | فگندہ | سایہ فگن | فگندہ |
| فہمیدن | سمجھنا | فہم | فہمانیدن | فہمد | بفہم | فہمندہ | سخن فہم | فہمیدہ |

## ک

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کاستن | گھٹانا، گھٹنا | • | • | • | • | • | • | کاستہ |
| کاشتن | جوتنا | کاشت | • | کارد | بکار | کارندہ | تخم کار | کاشتہ |
| کافتن | کھودنا | • | • | کافد | بکاف | • | • | کافتہ |
| کاویدن | کھودنا | کاوش | • | کارد | بکار | کاوندہ | • | کاویدہ |
| کاہیدن | گھٹنا گھٹانا | کاہش | • | کاہد | بکاہ | کاہندہ | جانکاہ | کاہیدہ |
| کردن | کرنا | کار | کنانیدن | کند | بکن | کنندہ | نصیحت کن | کردہ |
| کشادن | کھولنا | کشائش | • | کشاید | بکشائے | کشائندہ | مشکل کشا | کشادہ |
| کشتن | مار ڈالنا | • | • | کشد | بکش | کشندہ | دشمن کش | کشتہ |
| کشودن | کھلنا | کشودگی | • | • | • | • | • | کشودہ |
| کشیدن | کھینچنا | کشش | • | کشد | بکش | کشندہ | گردن کش، دامن کشاں | کشیدہ |

| مصدر | معنی مصدر | حاصل مصدر | طریق تعدیہ | مضارع | امر | اسم فاعل قیاسی | اسم فاعل سماعی | اسم مفعول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کفیدن | پھٹنا | . | . | . | . | . | . | کفیدہ |
| کندن | کھودنا | . | . | کند | بکن | کنندہ | . | کندہ |
| کندیدن | کھودنا | . | کندانیدن | کندد | بکند | . | . | کندیدہ |
| کوشیدن | کوشش کرنا | . | . | کوشد | بکوش | کوشندہ | سخت کوش | کوشیدہ |
| کوفتن | کوٹنا | کوفت | کوبانیدن | کوبد | بکوب | کوبندہ | کوباں زکوب | کوفتہ |

## گ

| مصدر | معنی مصدر | حاصل مصدر | طریق تعدیہ | مضارع | امر | اسم فاعل قیاسی | اسم فاعل سماعی | اسم مفعول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گداختن | پگھلنا پگھلانا | گداز | . | گدازد | بگداز | گدازندہ | جانگداز | گداختہ |
| گزاشتن | چھوڑنا | گزاشتہ | . | گذارد | بگذار | گذارندہ | . | گزاشتہ |
| گزشتن | گزرنا | . | گزرانیدن | گذرد | بگذر | گزرندہ | . | گزشتہ |
| گرفتن | پکڑنا لینا | گرفت | . | گیرد | بگیر | گیرندہ | دامنگیر | گرفتہ |
| گرویدن | رغبت کرنا | گرویدگی | . | گرود | بگرو | گروندہ | . | گرویدہ |
| گزرانیدن | گزارنا گوارہ کرنا | . | . | گزارند | بگزراں | گزرانندہ | . | گزرانیدہ |
| گرائیدن | خواہش کرنا | گرائش | . | گراید | بگرائے | گرائیدہ | . | گرائیدہ |
| گردیدن | پھرنا ہونا | گردش | گردانیدن | گردد | بگرد | گردندہ | گرداں کوچہ گرد | گردیدہ |

| مصدر | معنی مصدر | حاصل مصدر | طریق تعدیہ | مضارع | امر | اسم فاعل قیاسی | اسم فاعل سماعی | اسم مفعول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گریختن | بھاگنا | گریز | • | گریزد | بگریز | گریزنده | گریزاں | گریختہ |
| گریستن | رونا | گریہ | • | گرید | بگری | گرینده | گریاں | گریستہ |
| گزاردن | ادا کرنا | گزارش | • | گزارد | بگزار | گزارنده | نمازگزار | گزارده |
| گزیدن | کاٹ کھانا | گزیدگی | • | گزاید | بگزائے | گزنده | لب گزارے | گزیده |
| گساردن | چھوڑنا | • | • | گسارد | بگسار | گسارنده | غم گسار | گسارده |
| گزیدن | چن لینا | • | • | گزنید | بگزیں | گزنینده | خلوت گزیں | گزیده |
| گستردن | بچھانا | • | گسترانیدن | گسترد | بگستر | گسترنده | ازم گستر | گسترده |
| گسستن | توڑنا | • | • | • | • | • | • | گسستہ |
| گسیختن | توڑنا<br>ٹوٹنا | گشت<br>گستگی | • | گسلد | بگسل | گسلنده | پیماں<br>گسل | گسیختہ |
| گشتن | پھرنا<br>ہونا | گشت<br>گشتگی | • | • | • | • | • | گشتہ |
| گفتن | کہنا | گویائی<br>گفتار | • | گوید | بگو | گوینده | گویاں<br>گویا | گفتہ |
| گماشتن | مقرر کرنا | • | • | گمارد | بگمار | گمارنده | • | گماشتہ |
| گنجیدن | سمانا | گنجائش | • | گنجد | بگنج | گنجنده | • | گنجیده |
| گواریدن | ہضم ہونا | گوارش | • | گوارد | بگوار | گوارنده | گواره | گواریده |

| مصدر | معنی مصدر | حاصل مصدر | طریق تعدیہ | مضارع | امر | اسم فاعل قیاسی | اسم فاعل سماعی | اسم مفعول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ل** | | | | | | | | |
| لائیدن | شور کرنا بیہودہ بکنا فضول بکنا | - | - | لاید | بلائے | لائیندہ | - | لائیدہ |
| لافیدن | فضول بکنا | لاف | - | لافد | بلاف | لافندہ | - | - |
| لرزیدن | کانپنا | لرزش | لرزانیدن | لرزد | بلرز | لرزندہ | لرزاں | لرزیدہ |
| لغزیدن | پھسلنا | لغزش | لغزانیدن | لغزد | بلغز | لغزندہ | لغزاں | لغزیدہ |
| لیسیدن | چاٹنا | - | لیسانیدن | لیسد | بلیس | لیسندہ | کاسہ لیس | لیسیدہ |
| **م** | | | | | | | | |
| مالیدن | ملنا | مالش | - | مالد | بمال | مالندہ | پامال | مالیدہ |
| ماندن | رہنا | ماندگی | - | ماند | بمال | مانندہ | شادماں | ماندہ |
| مردن | مرنا | - | - | میرد | بمیر | میرندہ | - | مردہ |
| مانستن | مشابہ ہونا | مانائی | - | ماند | بماں | مانندہ | ماناں | مانستہ |
| مکیدن | چوسنا | - | مکانیدن | مکد | بمک | مکندہ | - | مکیدہ |

| مصدر | معنی مصدر | حاصل مصدر | طریق تعدیہ | مضارع | امر | اسم فاعل قیاسی | اسم فاعل سماعی | اسم مفعول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ن | | | | | | | | |
| نازیدن | ناز کرنا | ناز | • | نازد | بناز | نازنده | نازاں | نازیده |
| نالیدن | رونا | نالش | • | نالد | بنال | نالنده | نالاں | نالیده |
| نامیدن | نام رکھنا | • | • | نامد | • | نامنده | • | نامیده |
| نبشتن | لکھنا | • | • | • | • | • | • | نبشته |
| نشستن | بیٹھنا | • | نشانیدن | نشیند | بنشیں | نشیننده | خاک نشیں | نشسته |
| نکوہیدن | ملامت کرنا برائی کرنا | نکوہش | • | نکوہد | • | نکوہنده | • | نکوہیده |
| نگاشتن | لکھنا | نگارش | • | نگارد | بنگار | نگارنده | صورت نگار | نگاشته |
| نگریستن | دیکھنا | نگرانی | نگرانیدن | نگرد | بنگر | نگرنده | نگراں | نگریسته |
| نمودن | دکھنا، دکھانا | نمائش، نمود | • | نماید | بنمائے | نماینده | رہنمایاں | نموده |
| نہفتن | چھپنا | • | • | • | • | • | • | نہفته |
| نیوشیدن | سننا | • | • | نیوشد | نیوش | نیوشنده | سخن نیوش | نیوشیده |
| نواختن | بجانا، نوازنا | نوازش | • | نوازد | بنواز | نوازنده | بنده نواز | نواخته |
| نوردیدن | لپیٹنا | نورد | • | نوردد | بنورد | نوردنده | راه نورد | نور یده |
| نوشتن | لکھنا | نوشت | نویسانیدن | نویسد | بنویس | نویسنده | خوشنویس | نوشته |
| نوشیدن | پینا | نوش | نوشانیدن | نوشد | بنوش | نوشنده | مے نوش | نوشیده |

| مصدر | معنی مصدر | حاصل مصدر | طریق تعدیہ | مضارع | امر | اسم فاعل قیاسی | اسم فاعل سماعی | اسم مفعول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نہادن | رکھنا | • | • | نہد | بنہ | نہندہ | منت نہ | نہادہ |
| | | | | و | | | | |
| واخیدن | ڈھکنا | • | • | واخد | • | واخندہ | • | واخیدہ |
| وزریدن | اختیار کرنا | • | • | • | • | • | • | • |
| ورزیدن | ورزش کرنا | ورزش | • | ورزد | بورز | ورزندہ | ورزاں | ورزیدہ |
| درغلانیدن | بہکانا | • | • | درغلاند | • | درغلانندہ | • | درغلانیدہ |
| وزیدن | ہوا کا چلنا | • | • | وزد | بوز | وزندہ | وزاں | وزیدہ |
| | | | | ہ | | | | |
| ہراسیدن | ڈرنا | ہراس | ہراسانیدن | ہراسد | بہراس | ہراسندہ | ہراساں | ہراسیدہ |
| ہشتن | چھوڑنا | • | • | • | • | • | • | ہشتہ |
| ہالیدن | چھوڑنا | • | • | ہلد | بہل | ہلندہ | • | ہالیدہ |
| | | | | ی | | | | |
| یارستن | طاقت رکھنا سکنا | یارائے | • | یارد | • | • | • | یارستہ |
| یافتن | پانا | • | • | یابد | بیاب | یابندہ | کامیاب | یافتہ |

# مُعَزَّز حضرات

★ ہماری تجارت تھوڑے نفع اور زیادہ بکری پر منحصر ہے۔

★ دینی کتابوں کی مناسب قیمت۔

★ دُنیا کے ساتھ دین کی خدمت اور خیالِ آخرت۔

★ کاروبار میں صفائی اور حسن معاملت۔

★ انھیں چند اصولوں میں ہماری تجارت قائم۔

★ آزمائش بہترین کسوٹی ہے۔

★ ایک بار آرڈر دے کر آزمائش فرمالیں۔

★ انشاء اللہ آپ ہمیں دیانت دار اور فہم پائیں گے۔

ہمارے یہاں سے

درسی وغیر درسی کتابیں خصوصاً حضرت شاہ مولانا وصی اللہ صاحب وحضرت تھانوی رحمہما اللہ، نیز پارے، قاعدے، قرآن مجید، حمائلین معرّٰی، مترجم عمدہ وارزاں طلب فرمائیں۔

**MAKTABA NAIMIA**

maktabanaimiamau@gmail.com

Sadar Bazar, Maunath Bhanjan-275101 (U.P.)

M.:- 9450755820

Price : ₹ 15/-